

EN388:2016+ A1:2018

Mechanical Hazards Mechanische risico's خطرهای مکانیکی Risques mécaniques	Mechanische Gefahren यांत्रिक खतरے Pericoli meccanici Zagrożenia mechaniczne	Perigos mecânicos Riesgos mecánicos Mekanik Tehlikeler المخاطر الميكانيكية
--	---	---

4 X 4 3 B

0-4 Abrasion resistance (cycles) Schuurbe-stendigheid (cycli) مقاومت در برابر سایش (چرخه) Résistance à l'abrasion (cycles) Abriebfestigkeit (Zyken) آپا پرارپھ پرتوئریخ (تیرا ستر) Resistenza all'abrasione (cicl) Odporność na ostryzanie (cykl) Resistência a abrasão (ciclos) Resistencia a la abrasión (ciclos) Aqama direnci (gevrimler) مقاومة التآكل	0-5 Blade cut resistance (factor) Snijweerstand (factor) مقاومت در برابر برش با تیغه (عامل) Résistance à la coupe de lame (facteur) Klingenschnittfestigkeit (faktor) برقے کھڑے پرتوئریخ (فیکٹر) Resistenza al taglio con lama (fattore) Odporność na przecięcie ostrzem (współczynnik) Resistência ao corte (fator) Resistencia al corte de cuchilla (ciclos) Bıçak kesme direnci (faktör) (عامل) مقاومته شلوات القطع	0-4 Tear resistance (newton) Schuurbestendigheid (Newton) مقاومت در برابر پارگی (نیوتن) Résistance à la déchirure (newton) Reißfestigkeit (Newton) تیرا پرتوئریخ (نیوتن) Resistenza all'usura (newton) Odporność na rozdarcie (Newton) Resistência ao rasgamento (newton) Resistencia al desgarr (newton) Yırtılma direnci (newton) (نیوتن) مقاومته التمزق	0-4 Puncture resistance (newton) Leekbestendigheid (Newton) مقاومت در برابر سوراخ شدن (نیوتن) Résistance à la perforation (newton) Durchstoßfestigkeit (Newton) پنچر پرتوئریخ (نیوتن) Resistenza alla foratura (newton) Odporność na przekucie (newton) Resistência a perfuração (newton) Resistencia a la perforación (newton) Delimne direnci (newton) (نیوتن) مقاومته الثقوب	A-F TDM cut resistance (ISO 13997) TDM snijweerstand (ISO 13997) مقاومت در برابر برش TDM (بر اساس ISO 13997) Test TDM de résistance à la coupe (ISO 13997) TDM-Schnittfestigkeit (ISO 13997) TDM کھڑے پرتوئریخ (ISO 13997) Resistenza al taglio TDM (ISO 13997) Odporność na przecięcie TDM (ISO 13997) Resistência ao corte TDM (ISO 13997) Resistencia al corte TDM (ISO 13997) TDM Kesme Direnci (ISO 13997) مقاومته القطع TDM (ISO 13997)	(P) Impact resistance Impactbestendigheid مقاومت در برابر ضربه Résistance à l'impact Schlagzähigkeit پرتوئریخ Resistenza all'impatto Odporność na uderzenie Resistência ao impacto Resistencia al impacto Darbe Direnci مقاومته للصددمات (ك.ن)
--	---	---	--	--	---

Test results are taken from the palm area of the gloves, with the exception of impact resistance which may be taken from the back of the hand. Impact Protection applies to knuckles and back of hand - WARNING - Impact protection does not apply to fingers

Testresultaten werden afgenomen op de palmzone van de handschoenen, met uitzondering van impactweerstand, dat mogelijk op de achterkant van de hand werd getest - Impactbescherming geldt voor knokkels en de achterkant van de hand - WAARSCHUWING - Impactbescherming geldt niet voor vingers

نتیجہ از تست کف دستکش گرفته می شود، به استثنای مقاومت در برابر ضربه که ممکن است از پشت دست گرفته شود. محافظت از ضربه بر روی بند انگشت و پشت دست اعمال می شود. هشدار - محافظت از ضربه بر روی انگشتان اعمال نمی شود.

Ces résultats sont pris sur la paume du gant, à l'exception de la résistance aux chocs qui peut être prise sur le dos de la main. La protection contre les impacts s'applique aux jointures et au dos de la main - AVERTISSEMENT - La protection contre les impacts ne s'applique pas aux doigts

Die Testergebnisse stammen von der Handfläche der Handschuhe, mit Ausnahme der Schlagzähigkeitstprüfung - Diese Ergebnisse stammen vom Handrücken. Aufprallschutz gilt für die Fingergelenke und den Handrücken - ACHTUNG: Aufprallschutz gilt nicht für die Finger

پرتوئریخ پرتوئریخ، پرتوئریخ کے سبب دھرتا نے کے ذہنی کی پرتوئریخ سے لیتے جاتے ہے جسی ہاڑھ کے پختیے ہاڑھ سے لیتے جاتے جاسکتا ہے۔ پرتوئریخ پرتوئریخ سے لیتے جاتے جاسکتا ہے۔ پرتوئریخ پرتوئریخ سے لیتے جاتے جاسکتا ہے۔ پرتوئریخ پرتوئریخ سے لیتے جاتے جاسکتا ہے۔

I risultati del test si riferiscono all'area del palmo dei guanti, con l'eccezione della prova di resistenza all'impatto che potrebbe essere eseguita sul dorso della mano - La protezione dall'impatto si applica alle nocche e al dorso della mano - ATTENZIONE - La protezione dall'impatto non si applica alle dita

Wyniki pochodzą z testów przeprowadzanych na powierzchni chwytnej rękawicy, wyjątkiem są próby odporności na uderzenia, które mogą być przeprowadzane na grzbiecie rękawicy - Ochrona przed uderzeniem dotyczy knykici oraz wierzchołki dłoni - OSTRZEŻENIE - Ochrona przed uderzeniem nie dotyczy palców

Os resultados dos testes são retirados da área da palma das luvas, com a exceção da resistência ao impacto, que pode ser retirada das costas da mão - A proteção contra impacto aplica-se aos nós dos dedos e às costas da mão - AVISO - A proteção contra impacto não se aplica aos dedos

Los resultados se obtienen de la zona de la palma de los guantes, con la excepción de la resistencia al impacto, que se obtiene del dorso de la mano - La protección contra impactos se aplica a los nudillos y al dorso de la mano - ADVERTENCIA - La protección contra impactos no se aplica a los dedos

Test sonuçları, elin arka kısmından da alınabilen darbe direnci dışındaki eldivenlerin avuç içi kısmından elde edilmiştir - Parmak eklemlerinde ve elin arka kısmında darbelerle karşı koruma mevcuttur - UYARI - Parmaklarda darbelerle karşı koruma mevcut değildir

تخذ نتائج الاختبار من منطقة راحة اليد في القفازات، مع استثناء نتيجة مقاومة الصددمات التي يمكن أخذها من منطقة ظهر اليد. الحماية من الصددمات على منطقة مفصل ظهر اليد. التحذير - لا تنطبق الحماية من الصددمات على منطقة الأصابع

X = test not performed X = Test non effectué X = test not esaguito X = prueba no realizada
X = test niet uitgevoerd X = Test nicht durchgeführt X = test nie został wykonany X = test yapılmadı
X = تست انجام نشده است X = परीक्षण नहीं किया X = teste não realizado X = الاختبار لم يتم

SKYTEC ELEMENTS

EMG 725

EN388:2016 +A1:2018



4X43B



ANSI/ISEA 105



Hand size defined in EN ISO 21420:2020 EN ISO 21420:2020 اندازہ دست تعریف شدہ در Handmaat gedefinieerd in EN ISO 21420:2020 Taille des mains définie par la norme EN ISO 21420:2020 Handgrösse gemäss EN ISO 21420:2020 हाथ के आकार इसमें परिभाषित हैं EN ISO 21420:2020 Taglia della mano definita in EN ISO 21420:2020 Rozmiar dłoni określony w EN ISO 21420:2020 Tamanho da mão definido em EN ISO 21420:2020 Tamaño de mano definido e EN ISO 21420:2020 El ölçüsünün tanımlandığı yer EN ISO 21420:2020 مقاس اليد كما هو محدد في التوجيه EN ISO 21420:2020	Glove size اندازہ دستکش Handschoenmaat دستکش کا آकार Taglia guanto دستکش کا آकार Rozmiar rękawicy دستکش کا آकार Tamanho da luva دستکش کا آकार Tamaño de guante دستکش کا آकार Eldiven ölçüsü دستکش کا آकार مقاس القفاز	Product code کد محصول Productcode کد محصول Code produit کد محصول Produktkennung کد محصول Codice prodotto کد محصول Kod produktu کد محصول Código do produto کد محصول Ürün kodu کد محصول رمز المنتج
6	XS/6	EMG00725FB
7	S/7	EMG00725FD
8	M/8	EMG00725FF
9	L/9	EMG00725FH
10	XL/10	EMG00725FJ
11	XXL/11	EMG00725FL
12	XXXL/12	EMG00725FN

All trade names are trademarks of their respective companies.
Alle handelsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Toutes les marques commerciales sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Alle Handelsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Tüm ticari isimler, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.
Tutte le denominazioni commerciali sono marchi registrati delle rispettive società.

Wszystkie nazwy handlowe są znakami handlowymi stanowiącymi własność odpowiedzialnych firm.
Todos as designações comerciais são marcas registadas das respetivas empresas.
Todos los nombres comerciales son marcas registradas de sus empresas respectivas.
Tüm ticari isimler, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.
جميع الأسماء التجارية يتعد علامات تجارية خاصة بالشركات المملوكة لها ويمكن الحصول

www.globusgroup.com

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH, United Kingdom
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates
Globus Group Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA
EU representative: Globus EMEA Ltd, 51 Dawson Street, Dublin, D02 AN25, Ireland

SKY-ELE-PCK-US-EMG725-0324_1.indd 4-6

Products conform to the requirements of:
EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE)
Producten voldoen aan de eisen van:
EU-verordening 2016/425 van het Europees Parlement als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
محصولات مطبق با لوائح: مقررات الاتحاد اوروبا 425/2016/أوروبا لثوبى في مجال تجهيزات حفاظت شخصي (PPE) هتند.

Les produits sont conformes aux exigences de:
le règlement UE 2016/425 du Parlement européen en tant qu'équipement de protection individuelle (EPI)
Produkte entsprechen den Anforderungen von:
EU-Verordnung 2016/425 des Europäischen Parlaments als persönliche Schutzausrüstung (PSA)
उत्पाद निकायनवित्ति अवयवकाओं की पूर्णतः करते है, या ए व निकायन सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) पर बाअनित और सुरक्षा के वर्गनिकायन (एच। 2016/425)
Los productos cumplen con los requisitos de:
reglamento de la UE 2016/425 del Parlamento Europeo como Equipo de Protección Personal (EPI)
Ürün aşağıdaki düzenlemelerin gereksinimlerine uygundur:
ve Kırsal Korumacı Donanım (KKD) olarak Avrupa Konseyi Parlamento'sunun 2016/425 sayılı AB yönetmeliği
توافق المنتج مع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 425/2016 المادة عن البرلمان الأوروبي للمجلس بشأن معدات الحماية الشخصية (PPE).

Type examination certificates (Module B) issued by:
Certificaten van typekeuring (module B) afgegeven door:
مصادره دسترس (B-مژول) بر ع كركونه هوى آرسون
Certificats d'examen de type (module B) délivrés par:

Baumusterprüfung zertifikate (Modul B) ausgestellt von:
afgegeven door:
مصادره دسترس (B-مژول) بر ع كركونه هوى آرسون
Attestati di esame del tipo (Modulo B) rilasciati da:
Certyfikaty badania typu (moduł B) wydane przez:

Certificados de exame de tipo (Módulo B) emitidos por:
Certificados de exame de tipo (Módulo B) emitidos por:
Tip müayene sertifikalları (Modül B) yayımlayan:
بشهادات اختبار نوع (الوحدة ب) الصادرة عن:

EU: CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycully Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Ireland
(Notified Body No 02834)

